



کسی بند کا مال اللہ کی را میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس ظلم و زیادتی پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اور جس شخص نے اپنے نفس پر سوال کا دروازہ کھولا (یعنی بلا ضرورت مانگا)، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے

ابو کبشہ عمرو بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین باتیں ہیں، جن کی حقانیت و صداقت پر میں قسم کھاتا ہوں اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جس سے تم یاد رکھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا؛ بند کا مال اللہ کی را میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا (دوسری بات یہ کہ) جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس ظلم و زیادتی پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اور جس شخص نے اپنے نفس پر سوال کا دروازہ کھولا (یعنی بلا ضرورت مانگا)، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے، یا اسی طرح کی کچھ بات کہی۔ اور ایک بات میں تم سے کہتا ہوں، تم اسے یاد رکھنا فرمایا: یہ دنیا بس چار آدمیوں کے لیے ہے ایک تو وہ بند جسے اللہ تعالیٰ نے مال و زر بھی عطا کیا اور علم کی دولت سے بھی نوازا۔ پس وہ اپنے مال و دولت کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اس کے ذریعے اپنے قرابت داروں اور عزیزوں کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے اور اس میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے یہ شخص سب سے بلند مرتبہ والا ہے دوسرا وہ بند ہے، جسے اللہ نے علم دیا۔ مال و دولت محروم رکھا مگر اس کی نیت سچی ہے وہ کہتا ہے: اگر میرے پاس مال ہوتا، تو میں فلاں شخص جیسا کام کرتا ایسے شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملا گا اور ان دونوں کا اجر برابر ہوگا تیسرا بند ہے وہ، جسے اللہ نے صرف مال دیا اور علم سے محروم رکھا۔ وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں راہی روی کا شکار ہو جاتا ہے وہ اپنے مال کے سلسلے میں نہ تو اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ قرابت داروں سے صلح رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اس میں موجود اللہ کے حق کا پاس و لحاظ رکھتا ہے یہ مرتبہ کے لحاظ سے سب سے گھٹیا شخص ہے چوتھا شخص وہ ہے، جسے اللہ نے نہ تو مال دیا اور نہ ہی علم۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح کام کرتا اس کا معاملہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا اور ان دونوں کا گناہ برابر ہوگا

[صحیح] [اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے]

نبی ﷺ نے تین خصلتوں پر قسم اٹھائی اور صحابہ کرام کو ایک اور بات بھی بتائی ہے وہ تین خصلتیں ہیں: 1 بند کا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا یعنی صدقہ دینے کی وجہ سے اس کی برکت میں کمی نہیں ہوتی 2 جب کسی بند پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اگر اس ظلم میں کچھ بھی شامل ہو تو اللہ تعالیٰ اسے عزت بخشتا ہے اور ظالم کو ذلیل کرتا ہے 3 جب کوئی شخص بلا ضرورت لوگوں سے، صرف مال و دولت میں اضافہ کے لیے مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتا ہے اس کے لیے کسی اور ضرورت کا دروازہ کھول دیتا ہے یا اس سے کوئی نعمت چھین لیتا ہے پھر آپ ﷺ نے بتایا کہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے: 1- وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں عطا کیا ہے، پس وہ شخص صحیح جگہ اس مال کو خرچ کرنے میں احتیاط کرتا ہے، اپنے علم پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے یہ شخص سب سے بلند مرتبہ والا ہے 2- وہ بند

جس اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا کیا ہے لیکن مال عطا نہیں کیا، وہ اپنی نیت میں سچا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس پہ لمبی آدمی کی طرح اسے خرچ کرتا، پس وہ اپنی نیت کے مطابق ہی ہوگا، پہلا اور دوسرا شخص اجر و ثواب میں برابر ہیں 3- تیسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو عطا کیا ہے لیکن علم نہیں دیا، پس وہ مال کے معاملے میں بغیر علم کے بھٹک جاتا ہے، اس مال کے سلسلے میں اپنے رب سے ڈرتا نہیں، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی حق وہ جانا ہے، یہ شخص سب سے بدترین مرتبے کا ہے 4- چوتھا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور نہ ہی اسے علم سے نوازا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں تیسرے شخص کی طرح اسے خرچ کرتا، پس وہ اپنی نیت کے مطابق ہے اور ان دونوں (تیسرے اور چوتھے شخص) کا گناہ برابر ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5833>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

